

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے انوویشن ڈسٹرکٹ میں سرمایہ کاری اور ترقی کے عمل کا فروغ جاری رکھا ہوا ہے

انوویشن ڈسٹرکٹ شراکت داروں کے ذریعے \$ 55 ملین سے زیادہ کی خطیر رقم رکھی گئی ہے

برامپٹن، آن (14 اکتوبر 2021) - سٹی آف برامپٹن ایک پُر جدت اور انٹرپرائیور شپ کے ماحولیاتی نظام: یعنی برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر کے ذریعے اپنے ڈاؤن ٹاؤن کے معاشی امکانات کے فروغ اور انہیں غیر مقل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ 2019 میں شروع ہونے والے معاہدوں کے ساتھ، سٹی نے اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20.5 ملین ڈالر کی رقم خرچ کرنے کا عزم کیا ہے، جس میں انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں کی جانب سے بھی تقریباً 55.2 ملین ڈالر کی سرمایہ کی جائے گی۔

2019 سے 2021 تک، چھ نئے شراکت داروں نے انوویشن ڈسٹرکٹ میں اپنی موجودگی کو بھرپور طور پر ثابت کیا ہے۔ انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں میں انٹرپرائیوریل، بزنس انکیوبیشن، پوسٹ سیکنڈری ٹریننگ اور ایکسلریٹر اسپیسز مثلاً برامپٹن انٹرپرائیور سیکٹر، بی ہائیو برامپٹن، ریٹرنس کی قیادت میں وینچر زون، ایلیٹی چیوڈ ایکسلریٹر، فاؤنڈر انسٹی ٹیوٹ، الگوما یونیورسٹی اور راجرز سائبر سیکیور کیتالیسٹ ہیڈکوارٹرز اور ایکسلریٹر شامل ہیں۔ انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں شیرین ایچ، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA بھی کلیدی شراکت دار ہیں۔

کونسل کی ترجیحات کی مدت پر فروغ پانے والے تبدیلی کے اقدامات کمیونٹیز کی تکمیل، معاشی صلاحیتوں کو مقل کرنے اور انوویشن کوریڈور پر برامپٹن کی منفرد پوزیشن کو مضبوط بنانے میں مدد کریں گے۔

پورے کووڈ-19 کے دوران، سٹی نے شہر کے وسط میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کا عمل جاری رکھا ہے اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں نئی پیش رفت کو فروغ دیا ہے۔ The شہر کے انوویشن ڈسٹرکٹ کا مسلسل ارتقاء اس کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے اور شہر کو وبائی امراض کے اثرات سے باہر نکالنے میں مدد فراہم کرے گا جس میں سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت جیسے مسلسل ترقی کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی۔

انوویشن ڈسٹرکٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں www.bramptoninnovationdistrict.com یا سٹی کی ویڈیو دیکھیں، جس میں اس اختراعی ماحولیاتی نظام کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

فوری حقائق

- سٹی اور انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں نے انوویشن ڈسٹرکٹ میں جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرائیور شپ کی حوصلہ افزائی کرنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے 3288 نشستیں، ورکشاپس اور تقریبات کا انعقاد کیا ہے۔ ان نشستوں میں کاروباروں سے متعلق بالمشافہ مشاور، ٹریننگ، اسٹارٹ اپ ورکشاپس اور سائبرسیکیورٹی ایجوکیشن کی مہمات شامل تھیں اور اس میں 12000 سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔
- انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں نے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ہنر مند افراد کے لیے روزگار کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں اور وہ اب تک 49 ملازمین کی خدمات حاصل کر چکے ہیں۔ بی ہائیو مئی 2021 میں کھلنے کے بعد سے اب تک 73 بین الاقوامی اسٹارٹ اپس کے ساتھ مربوط ہوا ہے اور انہوں نے اپنے انکیوبیٹر پروگرام میں 14 بین الاقوامی اسٹارٹ اپس کو قبول کیا ہے۔
- جولائی کے مہینے میں، سٹی نے اعلان کیا تھا کہ ڈانمنٹ سٹیمٹ کو اپنے سنٹر فار انوویشن کے فروغ کے لیے آرکیٹیکٹ کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ CFI مرکزی طور پر برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن کور میں واقع ہو گا اور شہر میں موجودہ اور مستقبل کے سیکنڈری تعلیمی اداروں کو معاونت فراہم کرے گا جیسے الگوما یونیورسٹی، ریٹرنس یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف گیلف ہمبر۔ یہ ایک باہمی تعاون کی جگہ ہو گی جو ایک نئی مرکزی لائبریری کی پیشکش کرے گی اور پوسٹ سیکنڈری اداروں کو مقامی کاروباری اداروں اور اسٹارٹ اپس سے جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی اور برامپٹن کی افرادی قوت کو مستقبل کی ہنر مند ملازمتوں سے مربوط کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن گو اسٹیشن سے سٹی میں داخل ہونے والے یا نکلنے والے ریل کے مسافروں کے لیے ایک مرکزی دروازہ اور سنگ میل ہو گا۔

- راجرز سائبر سیکیورٹی کیٹالیسٹ کو ایمپلائمنٹ اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ کینیڈا نے فیوچر سکلز سینٹر پروگرام کے ذریعے 1.9 ملین ڈالر فراہم کیے ہیں۔ فنڈز کا استعمال تیز رفتار سائبرسیکیورٹی ٹریننگ پروگرام کی توسیع کے لیے کیا جائے گا تاکہ سیکھنے کا عمل زیادہ متنوع آبادی تک پہنچ سکے اور یہ تحقیق کی جائے کہ تربیتی پروگرام متنوع آبادیاتی گروہوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک دلچسپ تبدیلی کے درمیان ہے، اور ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ کو ایک بڑے تعلیمی اور جدت کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چونکہ ہم کووڈ-19 وبائی مرض کے اس اگلے مرحلے میں ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک متحرک اسٹارٹ اپ کمیونٹی کو فروغ دے رہے ہیں، مقامی ٹیلنٹ کو ترقی دے رہے ہیں اور کاروباریوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے معاشی بحالی کے عمل کو فروغ دے رہے ہیں۔ برامپٹن صحیح معنوں میں جدت کے ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کا مسلسل ارتقاء شہر کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے اور کووڈ-19 کے مضر اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہونے کے لیے ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنے شہر کے مرکز میں سرمایہ کاری لانے کی مسلسل کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنے ٹرانسفارمیشنل سینٹر فار انوویشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اور برامپٹن کو جدت اور انٹرپرائیورسپ کے ایک مرکز کے طور پر تعمیر کرتے ہوئے، ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ترقی کر رہے ہیں جس سے ہمارے تمام رہائشیوں کو خاطر خواہ فائدہ ہو گا۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"ہم اپنے شہر کے امکانات کو دوبارہ بحال اور غیر مقفل کر رہے ہیں اور اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں کلیدی اقدامات کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل کمیونٹیز تشکیل دے رہے ہیں جس سے ہمارے رہائشیوں، طلباء اور کاروباری افراد کو فائدہ ہو گا۔ برامپٹن کا مطلب ہے کاروبار اور اپنے قابل قدر انوویشن ڈسٹرکٹ شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم اپنے شہر کے مرکز میں ایک عالمی معیار کی تعلیم اور جدت کا مرکز تعمیر کر رہے ہیں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے شہر کو تعلیم اور جدت کے مرکز کے طور پر ترقی دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے ایک مقام پر اپنی موجودگی، قابل قدر شراکت داریوں اور ہنر مند افراد اور متنوع اہلیتوں کے حامل باصلاحیت افراد کے ساتھ، ہم اپنے شہر کے امکانات کو کھول رہے ہیں اور رہائشیوں، طلباء اور کاروباروں کے لیے ایک انوویشن ڈسٹرکٹ تیار کر رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر Monika.Duggal@brampton.ca اور www.brampton.ca پر مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca